



پی سی بی کرکٹ کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی

لاہور، 14 مئی 2020ء:

چیئرمین اقبال قاسم کی زیر صدارت پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اجلاس بدھ کے روز ویڈیولنک پر منعقد ہوا۔ یہ سال 2020 میں کرکٹ کمیٹی کا دوسرا اجلاس تھا۔

اجلاس میں چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز اور ہائی پرفارمنس سنٹر کے کوچز کی تعیناتی اور اس کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اجلاس میں چیئرمین کرکٹ کمیٹی نے کوچز کی کارکردگی جانچنے کے لیے قواعد و ضوابط تیار کرنے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ کمیٹی ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔

اجلاس میں ڈومیسٹک سیزن 2020-21 میں ڈیپارٹمنٹس کی شرکت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتفاق کیا گیا ہے کہ کمیٹی اس حوالے سے اپنی سفارشات مرتب کرے گی جو مزید غور کے لیے پی سی بی حکام کو بھجوائی جائیں گی۔

کرکٹ کمیٹی کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کی تقرری کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس دوران ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان نے خصوصی درخواست پر کرکٹ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کرکٹ کمیٹی کو قومی کرکٹ ٹیم کے سنٹرل کنٹریکٹ برائے سال 2020-21 کی فہرست، ویمنز کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ پر بھی بریفنگ دی گئی۔

اقبال قاسم، سربراہ پی سی بی کرکٹ کمیٹی:

پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کے سربراہ اقبال قاسم کا کہنا ہے کہ سہ ماہی اجلاس کا مقصد متعلقہ شعبوں کے امور پر تبادلہ خیال کرنے اور اس حوالے سے اراکین کی رائے جاننا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیزن 2020-21 میں ڈیپارٹمنٹل کرکٹ کی شرکت کے حوالے سے کام جاری ہے جس پر کمیٹی جلد اپنی سفارشات تیار کر کے انتظامیہ کو بھجوادے گی۔

اقبال قاسم نے کہا کہ کرکٹ کمیٹی نے مجموعی طور پر قومی کرکٹ ٹیم کے سنٹرل کنٹریکٹ برائے 2021-20 کی فہرست پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنگ پلیئرز کٹیگری اور ڈومیسٹک میں ایلٹ کٹیگری کی تشکیل نے کمیٹی کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نوجوان کھلاڑیوں میں عمدہ کارکردگی دکھانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.



www.psl-t20.com
@thePSLT20
@thePSL
PakistanSuperLeague
@thePSL

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4

